

26 فروری 2019

## برامپٹن میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (26 فروری 2019) - رہائشیوں اور سیاحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بروز جمعرات مورخہ 7 مارچ کو بوقت سہ پہر 4:30 تا 6 بجے تک برامپٹن سٹی ہال میں منعقد کیے جانے والے انٹرنیشنل وومن ڈے کو منانے کے لیے تشریف لائیں۔

سٹی آف برامپٹن اور زونٹا کلب آف برامپٹن اور کیلیڈون کی میزبانی میں منعقد کی جانے والی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز دھونی کی ایک تقریب (smudging ceremony) سے ہو گا اور ڈیلی ٹائمز اسکوائر سے سٹی ہال اٹریم تک ایک واک بھی منعقد ہو گی اور اس کے بعد موسیقی، میل ملاپ اور مفت ریفریشمنٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔

سٹی ہال اٹریم میں شرکاء کو خواتین کی مقامی تنظیموں کی جانب سے کئی مقررین کو سننے، پریزیٹیشنز ملاحظہ کرنے اور معلومات حاصل کرنے کا موقع بھی میسر ہو گا، بشمول:

- سٹی ٹی وی کی جانب سے ایمسیس کرسٹینا ہوورن اور ٹیمی سدرلینڈ
- میئر پیٹرک براؤن، ریجنل کونسلر روینہ سینٹوس اور سٹی کونسلر چارمین ولیمز کی جانب سے خیرمقدمی خطاب
- انٹرنیوئر بسمہ حیدر، جس کو CBC کے ڈریگنز ڈین پر فیچر کیا گیا، کی جانب سے ایک کلیدی خطاب
- برامپٹن کے سٹیزنز ایوارڈ کے حامل لیموئی سمونڈز کی جانب سے اسپوکن ورڈ
- والیس فار ویلنٹس کی مارگریٹ والیس-ڈفی کے ساتھ ایک تعاملی نشست
- ریچل لم اور ایلیا ابیدی، نارٹھ پارک اسکولز زونٹا کلب کے طلباء اور سنٹرل پبل سیکنڈری اسکولز کے طلباء کی جانب سے پریزیٹیشنز
- بداسہ اینور، روزے کہور چوبان، SAMA ماڈلز اور ناردرن لائیٹس اسٹریٹنگ کوارٹلیٹ کی جانب سے فنون کے مظاہرے
- سیلبویشن آرمی فیملی لائف ریسورس سنٹر کو زونٹا کلب کی جانب سے چیک پیش کیا جائے گا

میئر پیٹرک براؤن نے کہا کہ "برامپٹن میں پہلی مرتبہ خواتین کے عالمی دن کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ہمارے شہر کی ترقی میں خواتین کی جانب سے ادا کیے جانے والے اہم کردار کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ تقریب ان تمام خواتین کی کامیابیوں کی خوشی منانے کے لیے ہے جو انہوں نے یہاں برامپٹن میں، پورے کینیڈا میں اور پوری دنیا میں حاصل کی ہیں۔"

تمام رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر #WomenofBrampton کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے سٹی کی کاوشوں کی پذیرائی کریں۔ سٹی کے چینلز پر اپنے مواد کو شیئر کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے #WomenofBrampton کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے کسی ایسی خاتون کے بارے میں جس نے آپ کو متاثر کیا ہو ایک مختصر بیان (15 الفاظ یا کم) کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو پوسٹ کریں اور [ٹیک کریں @eventsbrampton on](https://www.brampton.ca/events/2019/02/26/women-of-brampton) انسٹاگرام میں یا [@Brampton](https://www.brampton.ca/events/2019/02/26/women-of-brampton) ٹوئٹر تقریبات میں۔

خواتین کا عالمی دن دنیا بھر کی خواتین کی جانب سے سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی میدان میں حاصل کی جانے والی ان کی کامیابیوں کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے اور دنیا میں زیادہ صنفی مساوات کی ضرورت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ 2019 کی مہم کا مرکزی خیال #BalanceforBetter ہے۔

اس تقریب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [یہاں کلک کریں](https://www.brampton.ca/events/2019/02/26/women-of-brampton)۔

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)